



### سٹی کو کمپلائنس آڈٹ کمیٹی کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں

برامپٹن، آن (3 جون 2022) – سٹی آف برامپٹن، سٹی کی کمپلائنس آڈٹ کمیٹی میں خدمات سر انجام دینے میں دلچسپی رکھنے والے شہریوں سے درخواستیں طلب کر رہا ہے۔

میونسپل الیکشنز ایکٹ، 1996 کے تحت، کمیٹی ایسے اہل رائے دہندگان کی درخواستوں پر غور کرے گی جو اس بات پر معقول وجوہات کی بناء پر یقین رکھتے ہوں کہ میونسپل الیکشن کے کسی امیدوار یا رجسٹرڈ تھرڈ پارٹی کے کسی ممبر نے مہم کے مالی معاملات سے متعلق ایکٹ کی کسی شق کی خلاف ورزی کی ہے۔ کمیٹی کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ سات ارکان پر مشتمل ہو گی۔ ان کی خدمات انجام دینے کی مدت 15 نومبر 2022 سے 14 نومبر 2026 تک کونسل کی اگلی مدت کے ساتھ ہم آہنگ ہو گی۔

### درخواست دہندگان کی اہلیت کی شرائط

درخواست دہندگان برامپٹن میں رہائش پذیر ہوں یا وہ کام کرنے والے پیشہ وارانہ ماہر افراد ہونے چاہیں۔ اس کے علاوہ، سٹی کو اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، پبلک ایڈمنسٹریشن اور/یا قانون کے شعبوں میں پس منظر اور تجربہ رکھنے والے درخواست دہندگان کی بھی ضرورت ہے۔ درخواست دہندگان کو درج ذیل شرائط پر پورا اترنا چاہیے:

- بلدیاتی انتخابات کے بارے میں علم اور سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، بشمول میونسپل الیکشنز ایکٹ کے مہم کی مالی اعانت کے قواعد کو بھی سمجھنا چاہیے
- تجزیاتی اور فیصلہ سازی کی ثابت شدہ مہارتیں ہونی چاہیں
- کمیٹیوں، ٹاسک فورسز یا اسی طرح کی ترتیبات میں کام کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے
- عدالتی امور سے مماثل انتظامی امور (quasi-judicial) کا علم بھی ہونا چاہیے
- دن اور شام کے اوقات میں میٹنگز میں شرکت کے لیے دستیابی اور خواہش ہونی چاہیے
- مواصلات کی زبانی اور بہترین تحریری مہارتیں ہونی چاہیں

### وہ افراد جو درخواست دینے کے لیے نااہل ہیں

میونسپل الیکشنز ایکٹ کے مطابق، مندرجہ ذیل افراد کمیٹی میں تقرری کے لیے اہل نہیں ہیں:

- سٹی آف برامپٹن کے ملازمین یا شہر کے اندر موجود سکول بورڈز کے اراکین
- برامپٹن سٹی کونسل یا لوکل بورڈز کے ممبران
- الیکشن کے ایسے امیدوار جن کے لیے کمیٹی قائم کی جاتی ہو
- الیکشن کے لیے میونسپلٹی میں رجسٹرڈ تھرڈ پارٹیز جن کے لیے کمیٹی قائم کی جاتی ہو

درخواست فارم اور ریزیومیز (résumés) کو سٹی کلرک کے دفتر میں بروز پیر، 13 جون، 2022 تک شام 4:30 بجے تک جمع کرانا چاہیے

ایک سلیکشن کمیٹی درخواست دہندگان کا انٹرویو کرے گی اور سٹی کونسل کو تقرری کی اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ انٹرویو کی تاریخ اور وقت کی تصدیق کے لیے اہل درخواست دہندگان سے انفرادی طور پر رابطہ کیا جائے گا۔ سٹی کونسل کی جانب سے 1 اکتوبر 2022 تک تقرریاں کی جائیں گی۔

میڈیا کنٹیکٹ  
سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)